

AMAZAMBI AMANENE (1OO)

١٠٠ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ

OMUWANDIISI:

ABDULFATTAH MATOVU ABU RADHIYYAH

1444/2023

TEL: +256 704261823

KIKAKASIDDWA:

NUUHU UTHMAN ABU NAJEEBAH

TEL. NO. 0704 966 357/0778512841

EBIRI MUKITABO

ENNYANJULA Y'OMUWANDIISI	6
1. OKUGATTA KU ALLAH.....	9
2. OKUTTA OMUNTU ALLAH GWE YAZIYIZA OKUTTA	9
3. OKUYISA OBUBI ABAZADDE ABABIRI	9
4. OKULEKA ESWALAH	10
5. AGAANA OKUWA ZAKAT NGA AYINA OBUSOBOZI	11
6. EDDOGO	11
.7 OBWENZI	12
.8 EBISIYAGA	12
9. OKULYA EMMAALI YENFISI (RIBAH)	12
10. OKULYA EMMAALI YA BAMULEKWA	13
11. OKULIMBISA ALLAH N'OMUBAKA WE.....	13
12. OKWEKUZA, OKWEWAANA, OKWELAGA, KABANDABE 14	
13. OKUJULIRA KUBIGAMBO EBYOBULIMBA	14
14. OKUNYWA OMWENGE	14
.15 OKUZANNYA ZZAALA {GAMBLING & BETTING}	15
16. OKUWAAYIRIZA ABAKYAALA AB'ENSA, ABAKKIRIZA 15	
17. OKUBBA { STEALING}	16
.18 ABASSI BOMAKUBO { ABABISA EMUUNDU, EBIGYAMBIYA}	16
19. OKULAYIRA ALINYA LYA ALLAH NGA OLIMBA	17
20. OBULYZAAMAANYA	17
21. OMUNTU OKWETTA	18
22. OKULIMBA NGA OYOGERA	18
23. OKULAMUZA ALLAH BY'ATASSA KUVA MUGULU.....	18
24. ABAKYAALA OKWEFANANYIIRIZA ABASAJJA N'ABASAJJA OKWEFANANYIIRIZA ABAKYAALA	19
25. OMUSAJJJA SSEKIBOTTE (ATAZIYIZA HARAAMU MU MAKAAGE)	19
26. OBUTEKUUMA MATONDO G'OMUSULO KUMUBIRI OBA KUNGOYE	19

27. OBUKUMPANYA.....	20
28. OKWAGALA ENSI N'OKWEKA OKUMANYA (IRIM) GYEWASOMA	20
29. OKULAALAASA (EBYO BYE MUGABYE).....	20
30. OKUKETTA ABASIRAAMU BANNO	21
31. OLUGAMBO.....	21
32. OKUKOLIMA.....	21
33. OKUKAKASA ABALAGUZI BY'EBAGAMBA (ABAKUBA EBITABO)	21
34. OMUKYAALA OKUSENGUKA BAAWE MUNSONGA ZOBULIRI AWATALI NSONGA	22
35. OKUNYIIZA MULIRAANWA	22
35. OKULYA N'OKUNYWERA MU BYOMBO BYA ZAABU NE FEEZA.....	22
36. OKWAMBALA ZAABU NE SILK KUBASAJJA.....	23
37. OKUWALAAZA EMPAKA KUMAZIMA	23
38. OKUKENDEEZA EBIPIMO N'EMIRENGO	23
39. OKUWONA ENKWE ZA ALLAH	23
40. OKUKAAFUWAZA OMUSIRAAMU	24
41. OKULEKA ESWALAH YE JUMAH	24
42.OKUSALA ENKWE EMBI	25
43. OKUVUMA OMU KUBA SWAHAABA BA NABBI SWALLALLAHU ALEIHI WASALAMU.....	25
44. OKUKUBA EBIWOUBE KU MUFU	25
45. OKUKYUSA EBIKONDO OBA ENSALOSALO ZENTTAKA	26
46. OKUYUNGA KUNVIIRI	26
47. OKWEKUBA TATTOO KUMUBIRI	26
48. OKUSALA EBISIGE KU MAASO (EYEBROWS)	26
49. OKULYA EMISANA MU MWEZI GWA RAMADHAN NGA TOYINA NSONGA.....	27
50. OKULEKA HIJJAH NGATE OYINA OBUSOBOZI.....	27
51. OKUSENGUKA ABENGANDA	28
52. OKUDDUKA MULUTALO LWE DDEENI	28
53. OKULYA EMMAALI YA HARAAM	28

54. OKULYA ENGUZI {TAKING BRIBES}.....	29
55. OKUPANGA TALAQ KUMUKYAALA OMU WAKATI WABASAJJA ABABIRI.	29
56. KABANDABE /KABAMPULIRE MU KUSINZA ALLAH	30
57. OKULIMBISA OKUGERA N'OKUSALAWO KWA ALLAH ...	30
58. OKUKUBA / OKUBUMBA/ OKUBAJJA EBIFAAANANYI EBIRIMU EMYOOYO	31
59. OKUNYIIZA N'OKUVUMA ABASIRAAMU	31
60. OKUKWEYESA ENGOYE KU BASAJJA.....	32
61. OKUSALIRA EKITALI ALLAH.....	32
62. OMUNTU OKUGAMBA NTI OYO YETAATA WANGE NGANAYE AKIMANYI NTI SIYE TAATA WE	33
63. OKUMMA OBUNTU OBUTONOTONO NGA AMAZZI	33
64. OKULEKA ESWALAH YE JAMAH KU MUSAJJA N'OSAALA WEKKA NGA TOLINA NSONGA.....	34
65. OKUKYUSA EKIRAAMO KY'OMUFU	34
66. OKUVUMA OMWAKA.....	35
67. OKUZIMBA KU NTAANA	35
68. OKWETABA NABAKAAFIRI MU KUZAAZA ALLAH {CHRISTMAS}	36
69. OKUYIMBA N'OKUWULIRIZA ENYIMBA (MUSIC)	36
70. OKUKWATA OMUKYAALA MUNGALO ATAKUZIRA KUWASA	37
71. OKWEMAZISA MUNSONGA Z'OBUFUMBO MWAMI OBA MUKYAALA (MASTURBATION)	38
72. OMUSAJJA OKWEGATTA ERI MUKYAALA WE MUKUBO ELYEMABEGA {ANAL SEX}	39
73. OMUSAJJA OKWEGATTA NE MUKYAALA WE NGAALI MUNSONGA ZE OBA OMUSAYI GWEKIZADDE (MENSTRUATION AND CHILDBIRTH).....	39
74. OKWEGATTA NEBISOLO MWAMI OBA MUKYAALA ZAMBI DDENE	40
75. OKULYA EMMAALI Y'OBUSIKA OBA EYABASIKA.....	41
76. OKULYA ENNYAMANFU N'OMUSAAYI	41

77. OKULYA ENNYAMA Y'EMBIZZI	42
78. ABAZADDE OKUTTA ABAANA BABWE KU LW'OKUTYA OBWAVU NENJALA.....	42
79. OMWANA OKOLIMIRA BAZADDE BE	42
80. OKUVUMA ABAZADDE	43
81. OKULAYIRA EBITALI ALLAH	43
82. OBWEYAMU ERI EBITALI ALLAH	44
83. OKULOOWOOZA KU ALLAH OBUBI	44
84. OKULOOWOOZANGA KUBANTU BANNAMMWE EBIROWOOZO EBITEEBEREZE	45
85. ENSAALWA	46
86. OKUSALA ENVIIRI EZITENKANANKANA (EKIMEMEYA)	46
87. OKUSALAKO EBIREVU N'OKUZA AMASULUBU.....	47
88. OMUKYALA OKUSALAKO ENVIIRI ZONNA KU MUTWE GWE	48
89. ABASAJJA OBUTAWASA N'ABAKAZI OBUTAFUMBIRWA AWATALI NSONGA (CELIBACY).....	48
90. OMUKYAALA OKUTAMBULA NAAVA MU MAK GABAWE NGA TAFUNYE LUKUSA.	49
91. OMUKYAALA OKWEKUBA AKAWOOWO (PERFUME) NGATALI WAKAAWE.	50
92. OKWAMBALA ENGOYE EMYUUFU N'EKYENVU.	50
93. OKUNYWA SIGALA N'OKULYA AMAYIRUNGI	52
94. OKULWANAGANYA WAKATI W'EBISOLE OBA EBINYONYI	53
95. OKWANUKULA KUKYOTAYINAAKO KUMAMYA.....	53
96. OKWAWUKANA KUNDAGAANO	54
97. OKWAGALA ENNYO ABAAWAKANYA ALLAH	55
98. OKWELAGUZA N'EBINYONYI	56
99. OKUVA MUBUSIRAAMU	57
100. OKUZUULA MU DIINI (BIDIA). OKUFUNDIKIRA.....	57

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ENNYANJULA Y'OMUWANDIISI

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّتِي حَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“Amatendo amalungi ga Allah, tumutendereza ne tumusaba okutuyamba, tumusaba okutusonyiwa, era tumusaba atuwonye obubi bw’emyoyo gyaffe n’obubi bw’ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah gw’aba alungamizza, teri asobola kumubuza, era gw’aba abuzizza teri asobola kumulungamya. Nkakasa (mu mutima gwange era ne njatuza n’olulimi lwange), nti (mu biriwo byonna) teri kisinzibwa (mu butuufu) okujjako Allah yekka atalina kimugattibwako, era nkakasa (mu mutima gwange) nti Muhammad muddu we era mubaka we”.

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْلِبَةٍ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
١٠٢

﴿ الْأَلْ ﴾ ١٠٢

“Abange mmwe abakkiriza! Mutye Allah mu butuufu bw’okumutya, era temuntuukibwangako okujjako nga muli Basiraamu”. (*Surat Al-Im’raan: Aya 102*).

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

﴿ رَقِيبًا ﴾ ١ النساء: ١

“Abange mmwe abantu, mutye Omulabirizi (Allah) wammwe oyo eyabatonda ng abajja mu mwoyo ogumu era mwe yatonda mukyala waagwo, n’azaalukusa okuva mu gyo (gyombi) abasajja bangi

n'abakyala. Mutye Allah oyo gwe musabiragana ku lulwe, Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli". (*Suurat al-Nisaa-i : Aya 1*).

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مَنْعَلَكُمْ ۝ أَتَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝ وَإِغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ ﴾ ۷۱
الأحزاب: ٧٠ - ٧١

Okuvvuunula:

"Abange mmwe abakkiriza, mutye Allah era mwogerenga bigambo bituufu, (Allah) abalongooseze emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe, oyo yenna agondera Allah n'Omobaka we, aba yeesiimye olw'esiiima lunene". (*Suurat al-Ah'zaab: 70-71*).

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَحَيْرَ الْهَدِيِّ هَذِيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاهَا، وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Oluvannyuma Iw'ebyo:

"Ebigambo ebisinga okuba ebirungi kitabo kya Allah, obulungamu obusinga okuba obulungi bulungamu bwa Muhammad (*swalla Llaahu alaihi wasallama*), ebintu ebisinga okuba ebibi by'ebizuule (mu ddiini), buli kizuule kyonna kiba kigunje, ate buli kigunje kiba kya bubuze, ate nga buli kya bubuze kya muliro".

(**Ebigambo ebyo bye nzivuunudde mu Luganda era bye nfudde ennyanjula y'ekitabo kino, by'ebigambo Nabbi Muhammad (*swalla Llaahu alaihi wasallama*) bye yagguzangawo okubuulira kwe, wabula tebikola ku kuwoowa kwokka).**

قال الله تعالٰى: ﴿إِنْ يَجْتَهِنُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُنْذِلُكُمْ مُدْخَلًا كَعِيًّا﴾ النساء ٣١

Bwe mubanga mwewaze ebisobyo ebinene eby'ekivve ebyo bye mwagaanibwa, Tujja kubakingiriza Tubaggyeko ebibi byammwe era Tulibayingiza oluyingiza olw'ekitiibwa.

اختلف العلماء في عدد الكبائر: قال بعضهم هي السبع الموبقات، وقال بعضهم: هي سبعون، وقال بعضهم: هي سبعمائة، قال بعضهم: هي ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم أن الكبائر: «كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب». وورد مثل هذا القول عن الإمام أحمد ورجحه القرطبي وابن تيمية والذهبي وغيرهم.

Abamanyi baffe baayawukanamu ku muwendo gw'amazambi amanene, abamu bagamba nti:

A: Gali mazambi muzanvu {7}

B. Gali mazambi nsaavu {70}

C. Ggali mazambi lusanvu {700}

Naye bino wammanga kw'otegeerera ezzambi nti ddene naddala singa kubaako ekibonerezo wano ku nsi oba omuliro ku nkomerero, oba obusungu bwa Allah oba ekikolimo, oba nga Nabbi yalaga kizikiriza abeera akikoze, oba okugamba nti kyonoono kinene, okugeza nga okukuba ebiwoobe, oba nti akola ekintu gundi Allah ayinza okukyusa ekifananyi kyo'muntu n'amufuula embizzi, enkobe oba ekintu ekirala.

1. OKUGATTA KU ALLAH

الشرك بالله: ذكر القرآن: "إِنَّمَا مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَوَاهُ إِلَيْهِ إِلَّا نَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ".

"Mazima omuntu yenna agatta Allah n'ekintu ekirala, ddala mazima yaziyyiza Allah ku ye okuyingira Ejjana, n'obuddo bwe, muliro . Era tebalina abalyazaamaanyi mutaasa".

2. OKUTTA OMUNTU ALLAH GWE YAZIYIZA OKUTTA

قتل النفس التي حرم الله الا بالحق: ذكر القرآن: ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزِاؤُهُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٣٩]

Qur'an: "N'omuntu atta omukkiriza nga agenderedde, empeera ye (kwe kuyingira omuliro) Jahannama agubeeramu lubeerera era Allah yamusunguwalira n'amukolimira, era yamuteekerateekera ebibonerezo ebinene".

3. OKUYISA OBUBI ABAZADDE ABABIRI

عقوق الوالدين: ذكر القرآن: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يُبْلِغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلِنْهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [٢٤] وَاحْفَضْهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْنَهُمَا رَبِّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [٢٣] [الإسراء: ٢٣-٢٤].

Qur'an: “Yasalawo Mukama wo nti: Temusinzanga omulala yenna wabula Ye yekka (gwe muba musinza), era n'akubiriza nti n'abazadde bombiriri mubaisenga bulungi. Singa mazima abanga atuuisizza obukulu (n'akaddiwa) nga ali w'oli, omu ku bombiriri oba bombiriri tobagambanga (ekigambo) ekibi (eky'okubenyinyala) era tobakambukiranga, wabula bagambenga kigambo kya kubagulumiza.{23}. Era obakkakkanyize bombiriri ekiwawaatiro ky'obwetoowaze mu kusaasira (beetoowalizenga mu bikolwa byo), era ogambe (nga obasabira): Ayi Mukama wange! Basaasire bombiriri nga (nabo) bwe banderanga nga ndi muto”.

4. OKULEKA ESWALAH

ترك الصلاة: ذكر القرآن: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلَقَّوْنَ عَيْنًا﴾٥٩ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾٦٠ [مريم: 59-60]. وقال النبي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [رواه أحمد والترمذى والنمسائى].

Qur'an: “Ne baddirwa mu bigere oluvannyuma lwabwe abasika (ababi) abaalagajjalira esswala, ne bagoberera eby'obwagazi. Kyaddaaki balisuulwa mu (lusenyi lw'omuliro) Gayya babonerezebwe (ku lw'ebibi byabwe).{60} Wabula oyo aba yeenenyezza n'akkiriza n'akola emirimu emirongoofu, abo ba kuyingira Jjana (Ennyumba ey'emirembe), era tebaliryazaamaanyizibwa kintu kyonna”.

Hadith: Omubaka waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: “Endagaano wakati waffe nabo, muntu kuleka swalah, n'omuntu agireka aba akaafuwadde”.

5. AGAANA OKUWA ZAKAT NGA AYINA OBUSOBOZI

منع الزكاة: ذكر القرآن: "وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْأَخْرَةِ هُمْ كَافِرُونَ [فصلت: ٦, ٧].

Quran: “N'okubonaabona kuli ku bagatta Katonda n'ebintu ebirala{6} Abo abatawaayo zzakaati (emmaali Allah gye yabalaalika okuwanga) era nga nabo olunaku lw'enkomerero bbo baluwakanya”.

6. EDDOGO

السحر: قال الله تبارك وتعالى : وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا بِعِلْمِهِنَّ النَّاسَ السَّيْحَرُ [البقرة: ١٠٢] :

Qur'an: “Naye sitaane ze zaakaafuwala, nga ziyigiriza abantu eddogo...”.

وفي الحديث «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله...».

Hadith: “Mwesambe ebintu musanvu nga bizikirizaeddogo, okutta omuntu Allah gwe yaziyyiza okutta...”.

7. OBWENZI

الزنا: ذكر القرآن: ﴿وَلَا تَغْرِبُوا الِّزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا﴾ [٣٢] ، [الإسراء: ٣٢]

Qur'an: “Era temusembereranga obwenzi. Mazima bwo kyalí kibi okuva ddi na ddi era ly'ekkubo erisinga obubi”.

8. EBISIYAGA

اللواط : ذكر القرآن عن قوم لوط: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ [٨١-٨٠] [الأعراف: ٨١-٨٠]

“Ne (Nabbi) Luutu! (Jukira) Twamutuma mu kiseera bwe yagamba eri ekibiina kye: Mukola eby'obuwemu ebitakolwanga muntu n'omu mu bitonde? {80} Mazima mmwe mumalira obwagazi ku basajja sso abatali bakazi. Wabula mmwe muli ekibiina ekyiyitirizza (okwonoona) {81}”.

9. OKULYA EMMAALI YENFISI (RIBAH)

الربا: ذكر القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِجَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: ٢٧٩, ٢٧٨] ، وقال رسول الله ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله» . [رواه مسلم]

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Mutye Allah, era muleke ekyo ekikyasigaddeyo (kye mubanja) mu kuwola okw'okuzzaamu, bwe muba nga muli bakkiriza {278} Bwe munaaba nga temukikoze, mwetegekere (ekirangiriro) ky'olutalo okuva eri Katonda n'Omubaka We...”.

Hadith: “Allah yagoba mukusasira kwe buli alya Ribah, negwebagiriddeko”.

10. OKULYA EMMAALI YA BAMULEKWA

أَكْلَ مَالَ الْيَتَيمِ: قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَاٰ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]

Qur'an: “Mazima abo abalya emmaali ya bamulekwa mu balyazaamaanyi, ddala (baba) balya Muliro mu mbuto zaabwe, era bagenda kwesogga omuliro ogubumbujja”.

11. OKULIMBISA ALLAH N'OMUBAKA WE

الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله : ذكر القرآن: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَىَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىَ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّيًّا لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠] ، وقال النبي: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» [رواه البخاري].

Qur'an: “Ne ku Lunaku Lw'okuyimirira (mu maaso ga Katonda) oliraba (Ggwe Muhammadi) abo abaalimba nga bateeka ku Katonda by'atalina nga amaaso gaabwe nga gaddugadde (ku lw'ennaku). Abaffe temuli mu muliro Jahannamu kifo ky'abeekuza (ne bagaana okugoberera amazima)?

Hadith: “Yenna animbisa nze Omubaka wa Allah, yetekereteekere entebbe ye mu muliro”.

12. OKWEKUZA, OKWEWAANA, OKWELAGA, KABANDABE

الْكَبِيرُ وَالْفَخْرُ وَالْخِلَاءُ وَالْعَجْبُ وَالْتَّيْهُ: ذَكْرُ الْقُرْآنِ: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِينَ [النَّحْل: ٢٣]، وَقَالَ الرَّسُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالٌ ذَرَّةٌ مِّنْ كَبْرٍ» [رواه مسلم].

Mazima ddala Katonda Tayagala beekuza.

Hadith: “Nabbi waffe Alehi Salaam yagamba {Tagenda kuyingira Jjanah Yenna eyayina okwekuza mu mutima gwe kakibeere nga empeke entono ennyo”.

13. OKUJULIRA KUBIGAMBO EBYOBULIMBA

شَهَادَةُ الزُّورِ : ذَكْرُ الْقُرْآنِ: (فَاجْتَبَوُا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَبَوُا قَوْلَ
الْزُّورِ) [الحج: ٤]

Qur'an: “Kale mwewale ebyenyinalwa (amasanamu) era mwewale ekigambo eky'obulimba”.

14. OKUNYWA OMWENGE

شرب الخمر: ذكر القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[المائدة: ٩٠] ، وقال الرسول: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاميها والمحمولة إليه وأكل ثمنها» . [رواه أبو داود والحاكم].

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Mazima omwenge ne zzaala, n'amasanamu (ebifaananyi) n'obusaale (obulagula n'ebirala ng'ebyo), byenyinyalwa bya mu mirimu gya sitaane. Mubyewale oba olyawo ne mwesiima).

Hadith {Allah yakolimira omwenge, agunywa, agutambuza, agutunda, agugula, agusogola, mwebagusogola, agwetise, mwebagwetikidde, naalya ensimbi aziguvudemu”.

15. OKUZANNYA ZZAALA {GAMBLING & BETTING}

القمار: ذكر القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Mazima omwenge ne zzaala, n'amasanamu (ebifaananyi) n'obusaale (obulagula n'ebirala ng'ebyo), byenyinyalwa bya mu mirimu gya sitaane. Mubyewale oba olyawo ne mwesiima”.

16. OKUWAA YIRIZA ABAKYAALA AB'ENSA, ABAKKIRIZA

قذف الحصّنات: ذكر القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

Qur'an: “Abo abawaayiriza abakyala ab'ensa, abakkiriza, abagayaavu abatamanyi byabwenzi, bakolimirwa mu nsi ne mu Bulamu Obw'oluvannyuma. Era balina ebibonyobonyo ebinene”.

17. OKUBBA { STEALING }

السرقة: ذكر القرآن: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

Qur'an: Omubbi omusajja n'omubbi omukazi, mutemengako emikono gya bombiriri. Nga y'empeera y'ekyo kye bakoze, nga kibonerezo eky'okulabirako ekyava eri Katonda. Ne Katonda wa kitibwa, Omulamuizi.

18. ABASSI BOMAKUBO { ABABISA EMUUNDU, EBIGYAMBIYA }

قطع الطريق: ذكر القرآن: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْقَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَهُنَّ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

Qur'an: “Mazima empeera y'abo abalwanagana ne Katonda n'Omubaka We ne babunyisa mu nsi obwonoonyi n'okugitabangula, (ekibonerezo kyabwe) kwe kuttibwa oba okukomererwa ku musaalaba, oba okukutulako emikono gyabwe n'amagulu gaabwe mu

mpulungutanye, oba okuwanngangusibwa okuva mu nsi. Ekyo ku bo kya buswatu muno mu nsi era balina mu bulamu obw'enkomerero ebibonerezo ebiyitirivu”.

19. OKULAYIRA ALINYA LYA ALLAH NGA OLIMBA

اليمين الغموس: قال النبي: «من حلف علي يمين صبر، يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» [رواه البخاري].

Hadith: “Yenna alayirila muganda we nti guminkiriza enkya, ng'akimanyi nti alimba agya kusisinkana Allah ngaliko obusungu bwe”.

20. OBULYZAAMAANYA

الظلم: ويكون بأكل أموال الناس وبالضرب والشتم والتعدى والاستطالة على الضعفاء، ذكر القرآن: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ [الشعراء: ٢٢٧] ، وفي الحديث: «اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيمة» [رواه مسلم].

Okulya emmaali yabantu oba okukuba oba okuvuma oba okunyigiriza abawaansi.

Qur'an: “Kale kyaddaaki) bagenda kumanya abo abalyazaamaanyi buddo ki gye balidde”.

Hadith: “Mutye nnyo Obulyazaamaanya mazima kizikiza kulunaku lwe'nkomerero”.

21. OMUNTU OKWETTA

الانتحار : ذكر القرآن: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا نَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [النساء: ٢٩ - ٣٠]. وقال النبي: «...من قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيمة».

Qur'an: “Era temuttanga emyoyo gyammwe. Mazima Katonda Yali Musaasizi eri mmwe okuva ddi okutuusa ddi! [29] N'omuntu akola ekyo ku lw'obulumbaganyi n'obulyazaamaanyi, Tulusogga mu muliro, era ekyo ku Katonda Kyangu”.

Hadith: “Yenna atta omwoyo gwe nekintu kyonna bagenda mubonerezesa nakyo kulunaku lwe'nkomerero”.

22. OKULIMBA NGA OYOGERA

الكذب في غالب الأقوال.

.. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذا با». .

Hadith: “Mazima okulimba kukutwaala eri obononefu, atenga mazima obononefu bukuza eri muliro, mazima omuntu anyinza okubeera omulimba okutuusa lwakakasibwa ewa Allah nti omuddu mulimba”.

23. OKULAMUZA ALLAH BY'ATASSA KUVA MUGULU

الحكم بغير ما أنزل الله: ذكر القرآن: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: ٤].

Qur'an: "N'omuntu atalamula n'ebyo Katonda bye Yassa; nabo be bawakanyi (abatakkiriza) abamenyi b'amateeka".

24. ABAKYAALA OKWEFANANYIIRIZA ABASAJJA N'ABASAJJA OKWEFANANYIIRIZA ABAKYAALA

تشبيه النساء بالرجال وتشبيه الرجال بالنساء: قال رسول الله في الإسلام:
«لعن الله المختين من الرجال، والمتراجلات من النساء» [رواه البخاري].

Hadith (Nabbi waffe Aleihi Salaam yagamba nti" Allah yakolimira abakyaala abefananyiriza abasajja nabasajja abefananyiriza abakyaala {mu kwoogera, munyambala, mutambula nebirala}

25. OMUSAJJA SSEKIBOTTE (ATAZIYIZA HARAAMU MU MAKAAGE)

الديوث: قال النبي: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث،
ورجلة النساء» [رواه النسائي والحاكم وأحمد].

Hadith: "Nabbi waffe Aleihi Salaam yagamba nti" Bantu bamiteeko esatu tebagenda kuyingira Jjanah.... omusajja ssekibote...".

26. OBUTEKUUMA MATONDO G'OMUSULO KUMUBIRI OBA KUNGOYE

عدم التنّزه من البول، ذكر القرآن: وَثِيَابُكَ فَطَهَّرْ [المدثر: ٤] ، وقال النبي وقد مر بقبرين: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنّيمية».

Qur'an: "N'engoye zo zitukuze"!

Hadith { Nabbi waffe Aleihi Salaam lumu basanga entaana bbiri , nagamba nti banno bombi babonerezebwa ,wabula ensonga siyinene ,omu yali mugayavu kumatondo gomusulo gwe, wabula omulala yali asaasanya olugambo }

27. OBUKUMPANYA

الخيانة: ذكر القرآن: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ [يوسف: ٥٢] ، وقال النبي: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أُمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»

Qur'an: (mazima Allah Talunngamya nkwe za bakumpanya”.

Hadith: “Tayina bukkiriza Yenna atayina bwesigwa....”.

28. OKWAGALA ENSI N'OKWEKA OKUMANYA (IRIM) GYEWASOMA

التعلم للدنيا وكتمان العلم: ذكر القرآن: إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ
الْبَيِّنَاتِ وَاهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ [البقرة: ١٥٩]

Qur'an: “Mazima abo abakweka ebyo bye Twassa mu bunnyonnyofu
ne mu bulunngamu, oluvannyuma lw'okumala Ffe okubinnyonnyola
abantu mu Kitabo, abo Katonda abakolimira n'abakolimi (bonna) ne
babakolimira (babavumirira - Bamalayika n'abantu abakkiriza”.

29. OKULAALAASA (EBYO BYE MUGABYE)

المن: ذكر القرآن: لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى [البقرة: ٢٦٤]

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Temwonoonanga empeera za saddaaka zammwe n'okulaalaasa (Ebyo bye mugabye), oba okunakuwaza (Abo be muwadde)”.

30. OKUKETTA ABASIRAAMU BANNO

التجسس: ذكر القرآن: وَلَا تَجْسِسُوا [الحجرات: ١٢]

Qur'an: “Era temukettakettanga (ne mulingiriza bantu bannammwe mu bitabakwatako”.

31. OLUGAMBO

النميمة: ذكر القرآن وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ (١٠) مَّشَاءَ بِنَمِيمٍ [القلم: ١١,١٠]

Qur'an: “Era togonderanga buli mulayizirayizi ayitiriza anyoomwa{10} Omugeyi, omubungeesa w'enngambo (n'ebyakalebule)”.

32. OKUKOLIMA

اللعن: قال النبي: «لعن المؤمن كقتله».

Hadith {Okukolimira omukkiriza abanga amusse}.

33. OKUKAKASA ABALAGUZI BY'EBAGAMBA (ABAKUBA EBITABO)

تصديق الكاهن والمنجم: قال النبي: «من أتى عرafa أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواه أحمد والحاكم].

Hadith: “Yenna agenda ewomulaguzi, oba omusamize nokakasa byayugende obeera muwakanyi kwebyo ebyasibwa ku Nabbi Swalallahu Aleihi Wasalamu”.

34. OMUKYAALA OKUSENGUKA BAAWE MUNSONGA ZOBULIRI AWATALI NSONGA

وقال النبي: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبىت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» [رواه البخاري].

Hadith: “Nabbi waffe Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti singa omusajja ayita mukyaala we kubuliri, omukyaala nagaana okwanukula, omusajja bwanyiga bamaliyika bakolimira omukyaala Oyo okutuusa bwebukya”.

35. OKUNYIIZA MULIRAANWA

أذى الجار: قال النبي: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» [رواه مسلم].

Hadith {Nabbi waffe Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti : Tagenda kuyingira Jjanah yenna atayisa bulungi mulirwano gwe}.

35. OKULYA N'OKUNYWERA MU BYOMBO BYA ZAABU NE FEEZA

الأكل والشرب في آنية الذهب أو الفضة: قال النبي: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم» [رواه مسلم].

Hadith {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: mazima ddala abo abaliira n'okunyweere mubyombo bya zaabu ne Feeza bakimanye nti omuliro jahannam gwebasa mumbuto zaabwe}

36. OKWAMBALA ZAABU NE SILK KUBASAJJA

لبس الحرير والذهب للرجال: قال : { إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة } [رواه

Hadith: {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: mazima ddala abasajja abambala silk kunsi tebalibeera namugabo gonna kunkomerero}

37. OKUWALAAZA EMPAKA KUMAZIMA

الجدل والمراء: قال : {...، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع..} [رواه أبو داود].

38. OKUKENDEEZA EBIPI MO N'EMIRENGO

نقص الكيل والميزان: ذكر القرآن: وَيَأْلِلُّلَّمُطْقِفِينَ [المطففين: ١].

Qur'an: “Okubonaabona kuli kw'abo abakendeeza ebipimo – (abakumpanya)”.

39. OKUWONA ENKWE ZA ALLAH

الأمن من مكر الله: ذكر القرآن: أَفَأَمْنُوا مَكْرُ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [الأعراف: ٩٩]، وكان النبي يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك فقيل له: يا رسول الله أتخاف علينا؟ فقال

رسول الله: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء»
[رواه أحمد والترمذى والحاكم].

Qur'an: “Beesize okuwona enkwe za Katonda? Tebayinza (kwesiga) kuwona nkwe za Katonda, wabula ekibiina ky'abafaafaaganiddwa”.

Hadith: “Nabbi Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti Aayi Allah gwe akyusakyusa emitima nyweza omutima gwange Ku Ddeeni yo , nebamugamba nti owange gwe Omubaka wa Allah okyatutiiririra nabagamba nti mazima emitima gyaffe gyili mungalo za Allah agyikyusa nga bwaba ayagadde”.

40. OKUKAAFUWAZA OMUSIRAAMU

تكفير المسلم: قال النبي: «من قال لأخيه يا كافر فقد باه بحنا أحد هما»
[رواه البخاري].

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Yenna ayita muganda we omusiraamu nti oli mukaafiri, kidira omu kubombiriri”.

41. OKULEKA ESWALAH YE JUMAH

ترك صلاة الجمعة: قال النبي: «لينتهي أقوام عن ودعهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» [رواه مسلم].

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti:”? ”

42.OKUSALA ENKWE EMBI

المكر والخدية: قال الله: وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ [فاطر:43] ،
وقال النبي: «المكر والخدية في النار» [البيهقي في شعب اليمان].

Qur'an: “Sso nga enkwe embi teziddira wabula bannyinizo (ababa bazisaze”.

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Okusala enkwe embi zitwala banyini zo muliro”.

43. OKUVUMA OMU KUBA SWAHABA BA NABBI SWALALLAHU ALEIHI WASALAMU

سب أحد من الصحابة: قال النبي: «لا تسبوا أصحابي فوالله الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» [رواه البخاري].

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Temuvumanga ba swahaaba bange, ndayira Allah Oyo ayina omwoyo gwenge mu mukono gwe singa wabaawo kumwe asadaaka ekyenkana olusozi Uhudi nga lwa zaabu temusobola kubenkanankana wadde akatundu”.

44. OKUKUBA EBIWOOBE KU MUFU

النياحة على الميت: قال النبي: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت» [رواه مسلم وأحمد].

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Abantu bamiteeko ebbiri mbatiilira abukaafiri, Okwewaanira mumawanga n'okukuba emiranga awali omufu”.

45. OKUKYUSA EBIKONDO OBA ENSALOSALO ZENTTAKA

تعيير منار الأرض: قال النبي: «... ولعن الله من غير منار الأرض» [رواه مسلم].

Hadith: {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira buli yenna akyuusa ensalosalo zenttaka”.

46. OKUYUNGA KUNVIIRI

. وقال النبي: «لعن الله الواصلة والمستوصلة..

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira ayunga kunviiri ne gwebaziyungako”.

47. OKWEKUBA TATTOO KUMUBIRI

الواشمات والمستوشمات

البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله قال: لَعْنَ اللَّهِ الْوَاشْمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشَمَاتِ ...

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira akuba Tattoo ne gwebagikubye....”.

48. OKUSALA EBISIGE KU MAASO (EYEBROWS)

البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله قال: لَعْنَ اللَّهِ الْوَاشْمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشَمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira yenna asalako ebisige kumaaso nooyo gwebabisalako.....”.

49. OKULYA EMISANA MU MWEZI GWA RAMADHAN NGA TOYINA NSONGA.

إفطار رمضان بغير مذكرة، : قال النبي: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».[3].

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Obusiraamu bwazimbibwa kumpagi ttaano...okusiiba omwezi gwa Ramadhan.....”.

50. OKULEKA HIJJAH NGATE OYINA OBUSOBOZI

ترك الحج من كبائر الذنوب

قول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ . (آل عمران: 97).

Qur'an: “Era Allah Akakasa ku bantu bonna okulambula ennyumba eyo, (nga kino kikakafu) ku muntu aba asobola ekkubo erituuka gy'eri. N'omuntu awakanya (obukakafu bwa Hijja) amanye nti mazima Katonda Mugagga obuteetaaga eri bitonde Bye”.

51. OKUSENGUKA ABENGANDA

فقطيعة الرحيم كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ أَعْصَمَهُمْ وَأَعْمَمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/23,22

“Abaffe olwo musuubirwa nti bwe munaaba mwe muzze ku bukulu (mmwe mufuga) nti mujja kwonoona mu nsi mukutule n'ennganda zammwe? Abo be bo Katonda be yakolimira (n'ekyaddako) n'abaziba amatu n'amaaso gaabwe”.

52. OKUDDUKA MULUTALO LWE DDEENI

الفرار من الزحف من الكبائر

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُؤْلُهُمْ أَلْأَذْبَارَ ﴾ الانفال 15

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Bwe muba nga musisinkanye abo abatakkiriza nga bakunngaanye (okubalyanyisa), temubakubanga amabega ne mudduka”.

53. OKULYA EMMAALI YA HARAAM

أكل المال الحرام ليس من الذنب الصغيرة، بل هو من كبائر الذنوب

فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ المؤمنون: 51

Qur'an: “Abange mmwe ababaka! Mulye mu birungi (ebitukuvu), era mukole (ebikolwa) ebirungi. Mazima Nze Mmanyi ebyo (byonna) bye mukola”.

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخْذَ الْمَالَ، أَمِنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ"

Hadith: “Nabbi Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Omulembe gugenda kugya nga omuntu tafaayo wa wajja maali ye oba agyije mu halal oba mu haram”.

54. OKULYA ENGUZI {TAKING BRIBES}

الرُّشُوةُ كَبِيرَةٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ، وَالرَّسُولُ ﷺ لَعِنَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ.

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Omubaka wa Allah yakolimira omuntu alya enguzi noyo gwe bagyilideko”.

55. OKUPANGA TALAQ KUMUKYAALA OMU WAKATI WABASAJJA ABABIRI.

الْمُحَلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْمُحَلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

Okutangazamu ku zzambi linno: Singa omukyaala ateebwa baawe enta ssatu (Talaq) takkirizibwa kuddayo kumuwasa okutuusa nga agenze n'afumbirwa ew'omusajja omulala ate naye n'amuwa Talaq entuufu. Kati wanno omusajja eyasooka wakirizibwa okuwasa omukyala oyo n'okumuwa amahare amapya.

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yakolimira omusajja ata mukyala we (Talaq) naye nga mupango wakati we n’omusajja eyasooka okuwasa omukyala oyo kimusobozese okumudira era amuwase, bombi baliko ekikolimo kye Nabbi”.

56. KABANDABE /KABAMPULIRE MU KUSINZA ALLAH

الرِّيَاءُ كَبِيرٌ مِّنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّيَاهُ شِرِّكًا؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

Qur'an: “N’omuntu (yenna)asuubira okusisinkana Mukama we, atekwa akole emirimu emirongoofu, era tagattanga mu kusinza Mukama we ekintu kyonna”.

57. OKULIMBISA OKUGERA N'OKUSALAWO KWA ALLAH

التکذیب بالقدر. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}

Qur'an: “Nga Allah Ye yabatonda n’ebyo bye mukola? (n’olwekyo Katonda y’ateekwa okusinzibwa”.

وَعَنْ مَعَاذْ بْنِ جَبَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قُطُّ وَفِي أُمَّتِهِ قَدْرِيَّةٍ وَمَرْجِعَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَعِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمَرْجِنَةِ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينِ نَبِيًّا.

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yagamba nti: Allah tatumangako nabbi yenna kumulembe nga kuliko Abantu abawakanya okugera nokusalawo kwa Allah (Qadariyyah)

mazima ddala Allah yakolimira abantu abo, ngayisiza kunnimi zababbi nsaavu.

58. OKUKUBA / OKUBUMBA/ OKUBAJJA EBIFAANANYI EBIRIMU EMYOOYO

تصوير ذوات الأرواح من بني آدم، أو من البهائم، أو الطيور، لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيمة المصوروون

Okukuba ebifananyi ebirimu emyooyo nga abantu, oba ebisolo oba ebinoyi oba ebiwuka oba ebyenyanja nebirala tekikkirizibwa,

Hadith “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku nkomerero be bakubi be bifaananyi”.

59. OKUNYIIZA N'OKUVUMA ABASIRAAMU

فسب المسلم بغیر حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق

Okuvuma omusiraamu awatali nsonga kkiri Haraam eri okwegatta kwabamanyi nakikola abeera mononefu.

فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا {الأحزاب: 58}. وصح عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.

Qur'an: “N'abo abanakuwaza abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala awatali kye bakoze, mazima baba beetisse okuwaayiriza n'ekibi ekyeyolefu”.

Hadith “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: ‘’Okuvuma omusiraamu bononefu ate okumulwanyisa bukafiiri’’.

60. OKUKWEYESA ENGOYE KU BASAJJA

الواجب على المؤمن رفع ثيابه، وأن لا تنزل عن الكعبين هذا الرجل، أما

المرأة فلا بأس لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار،

Kyateeka ku buli mukkiriza omusajja okusitula engoye ze zonna ne zittaka wansi wa bukongoVvule wabula ku bakyaala tebavunaanwa.

Hadith {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Omuntu yenna nga musajja nga engoye ze, zikka wansi wa bukongovule wakuyingira muliro”}

61. OKUSALIRA EKITALI ALLAH

الذبح لغير الله كبيرة وقول الله تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاخْرُ [الكوثر: 2]

Kale saala ku lwa Mukama wo (Esswala Ettaano) osale ne Saddaaka (Dhuhiya ku Iddi Enkulu).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله.

Hadith {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira omuntu asala nga asalira ekitali Allah}.

62. OMUNTU OKUGAMBA NTI OYO YETAATA WANGE NGANAYE AKIMANYI NTI SIYE TAATA WE

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَيِّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَيِّهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. مُتَفَقُّ عَلَيْهِ

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Omuntu yenna ayita atali taata we nganaye akimanyi nti siye taata we mazima Ejjana eri Haraam kuye”.

63. OKUMMA OBUNTU OBUTONOTONO NGA AMAZZI

منع فضل الماء. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَوْكِمُ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}

Qur'an: “Bagambe nti: Mumbuulire, singa amazzi gammwe (gonna ku nsi) gakeesessa nga gakalidde gaggweeredde mu ttaka, ani ayinza okubaleetera amazzi (g'ensulo) agakulukuta (atali Allah)”?

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلَةٍ يَمْنَعُهُ أَبْنَ السَّبِيلِ

Hadith “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Basatu, Allah tagenda kogera nabo wadde okubatunulako wadde okubatukuza era bayina ebibonerezo ebiruma , omuntu eyeyina akantu akatono nga Amazzi naagama omutambuze....”.

64. OKULEKA ESWALAH YE JAMAH KU MUSAJJA N'OSAALA WEKKA NGA TOLINA NSONGA

تارك الجماعة فيصلى وحده من غير عذر فصلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال العلماء، فمن تعمد الصلاة منفرداً لغير عذر بعد إقامة الجماعة فهو آثم لتركه الواجب

Eswalah ye jamah kumusajja yateeka eri okwegatta kwabamanyi ba Fiqih, nomusajja asadde yekka awatali nsong a emusonyiyisa nga bamaze okukima eswalah abeera ogudde mu kyonono okuleka ekyeteeka.

في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من سمع النداء ثم لم يجُبَ من غير عذر فلا صلاة له)

Hadith “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yagamba nti: Yenna abeera awuledde okwaziina eswalah natajja ku saala nga toyina nsong a emusonyiyisa bwabeera asadde tayina Swalah”.

65. OKUKYUSA EKIRAAMO KY'OMUFU

الإضرار في الوصية من الكبائر قال الله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّا
إِنَّمَا عَلَى الدِّينِ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Qur'an: “N'omuntu (yenna) akikyusa (ekiraamo) oluvannyuma lw'okukiwlira - mazima ekibi ekyo kiri kw'abo ababa bakikyusizza. Mazima Katonda Awulira, Amanyi”.

66. OKUVUMA OMWAKA

فإن سب الدهر حرم شرعاً، سواء عبر عنه بالدهر أو الزمن أو اليوم أو الوقت، فقد جاء في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم واللُّفْظُ لِلْبَخَارِي

Mazima okuvuma omwaka kiri Haraam, kakibeere nti ovumye mwaka oba ekiseera oba olunaku oba esaawa zambi .

Hadith Alqudusi {Allah yagamba nti : omuntu anyiiza okuvuma omwaka atenga nze mwaka ensonga zonna ziri mukono gwange nkyusakyusa ekiro nemisana.

67. OKUZIMBA KU NTAANA

يُحُرِّمُ البناءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَزِيرٍ، وَالْقَرْطَبِيِّ وَابْنِ تِيمَةَ، وَابْنِ الْقِيمَةِ
وَالشَّوَّكَانِيِّ، وَالشَّنْقِيَّطِيِّ، وَابْنِ بَازٍ، وَابْنِ عَثِيمِينَ، وَالْأَلْبَانِيِّ

Kiri Haraam okuzimba kuntaana, era kyekigambo Kya Ibn Hazm, Al-Qurtubi, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Shawkani, Al-Shanqeeti, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, and Al-Albani.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبَيَّنَ عَلَيْهِ))

Nabbi Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yaziyyiza okutandaaza entaana oba ojituulako oba ojizimbako.

68. OKWETABA NABAKAAFIRI MU KUZAAZA ALLAH {CHRISTMAS}

نَهِي الشَّرُعُ عَنِ الْجَلُوسِ فِي مَجَالِسِ الْكُفَّارِ وَالْعَصَيَانِ دُونِ إِنْكَارٍ عَلَى أَهْلِهَا؛
قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِّعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ
يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ
إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء:
[140]

Obusiraamu bwaziyiza omusiraamu okwetaba nokutuula nabakaafiri mukujeemera Allah

Qur'an: “Nga ate mazima yassa dda ku mmwe mu Kitabo nti, bwe muba nga muwulidde ebigambo bya Allah nga biwakanyizibwa era nga bijolongwa, temtuuulanga awamu nabo (abo ababiwakanya n'okubijolonga) oktuusa lwe banaakyusa ne badda ku mboozi endala. Mazima mmwe bwe munaaaba nabo bwe kityo munaaafaanana nga bo. Mazima Katonda wa kugatta wamu abannanfuusi n'abakafiiri mu muliro (Jahannama), bonna nga bali wamu”.

69. OKUYIMBA N'OKUWULIRIZA ENYIIMBA (MUSIC)

استماع الغناء الحرم من الكبائر والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُرُواً
أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ ﴿ وَإِذَا ثُلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَيْ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ
يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [لقمان: 6-7].

Okuwuliriza enyiimba Kiri Haraam era zambi ddene mumazambi amanene

Qur'an: "Ne mu bantu mulimu oyo agula emboozи ezirabankanya (ezitaliimu makulu) alyoke abuze (abantu) okubaggya ku kkubo lya Katonda awatali kusinziira ku kumanya n'abifuula (ebigambo bya Katonda) eby'olusaago. Abo bo balina ebibonyobonyo ebinyoomesa.

Bwe biba nga bimusomeddwa ebigambo Byaffe akyuka n'akubayo amabega nga yekuluntaza n'abeera nga atabiwulidde, ne muba nga mu matu ge muli ekigazibikidde. Kale musanyuse ng'omukudaalira nga bw'anaasisinkana ebibonyobonyo ebiruma}

70. OKUKWATA OMUKYAALA MUNGALO ATAKUZIRA KUWASA

فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمحيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يدل على تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبية عنها، ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه، لا فرق في ذلك، قال

الخطابي - رحمه الله

Hadith "Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: omu mumwe yandigumidde okumukubamu omusumaali nga gwakyuma mumutwe kyekisinga okukwata omukyaala atali wowo mungalo".

Obujulizi bulaga obwa haraam bokukwata mu ngalo z'omukyala oba omukyala okwata mu ngalo z'omusajja atakuzira kuwasa.

في قوله صلى الله عليه وسلم: كُلَّ ابْنِ آدَمْ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا حَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْلَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوِي وَتَحْدُثُ، وَيَصُدِّقُ ذَلِكُ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

Hadith: “Era Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatugamba nti: Buli muntu ayina omugabo gwe mubwenzi tasobola kuguwona, okwenda kwamaaso kulaba, Okwenda kwemikono kukwaata, nokwenda komutima kwegomba, ekikakasa oba okulimbisa bwebwerere”.

71. OKWEMAZISA MUNSONGA Z'OBUFUMBO MWAMI OBA MUKYAALA (MASTURBATION)

يرى ابن باز بتحريم الاستمناء وهو قول، جمهور أهل العلم ، إذ يقول: لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف قول الله:
 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ هٰذِهِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ هٰذِهِ﴾ [المؤمنون: 5-6].

Sheikh Ibn Baaz atutegeeza nti, okwemazisa mu nsonga z'obufumbo mwami oba mukyala kiri haraam era kye kigambo ky'abamanyi baffe abasinga obungi, olwensonga kikontana n'amateeka ga Allah mu Qur'an.

Qur'an: “Era be bo abakuuma obwerefere bwabwe, wabula ku bakyala baabwe oba (abazaana) abo emikono gyabwe egya ddyo be gyafuna (kubanga) mazima ku bo sibanenyezebwa”. **Surat Al-Muminoon 5-6.**

فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء . متفق عليه.

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: {Abange mwe abavubuka abeera ayina obusobozi obuwasa omukyaala awase mazima okuwasa kukakanya amaaso nokuma obwerere naye abatayina busobozi asiibe.....”.

72. OMUSAJJA OKWEGATTA ERI MUKYAALA WE MUKUBO ELYEMABEGA {ANAL SEX}

فإن إتيان الزوجة في دبرها (في موضع خروج الغائط) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد

"Mazima ddala omusajja okuyita mukubo ery'emabega omuyita obukyafu obunene zambi ddene mumazambi amanene kakibere nga omukyaala ali mu nsonga ze oba taziriimu tekikkirizibwa'.

Hadith {Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yakolimira omusajja yenna agenda mukyaala we emabega (Anal Sex).

73. OMUSAJJA OKWEGATTA NE MUKYAALA WE NGAALI MUNSONGA ZE OBA OMUSAYI GWEKIZADDE (MENSTRUATION AND CHILDBIRTH)

وطء الزوجة أثناء الحيض لا خلاف بين العلماء على أن حكم وطء الزوجة أثناء الحيض، محرم شرعاً، [٣] ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَفْرُهُنَّ حَتَّى
 يَطْهُرْنَ مِنْ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُثْوَهُنَّ مِنْ حِينَ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ
 {الْمُتَطَهِّرِينَ}

Okwegatta komusajja eri mukyaala we ngali munsonga ze Kiri Haraam era tekirimu kwawukana mubamanyi baffe.

Qur'an: {Era bakubuuza (Ggwe Muhammadi) ku mukyala nga ali mnaku zaabwe (nga bali mu Heezi). Bagambe nti: Gwo (omusaayi), kyenyinyalwa, kale mwawukane n'abakayala (obuteegatta nabo) nga bali mu bulwadde bwabwe (nga bali mu Heezi). Temubasembereranga okutuusa nga lwe batukula. Bwe babeera nga batukudde (ne banaaba, olwo) mugendenga gye bali mu kifo awo Katonda we Yabakkiriza (mwegattenga nabo emberi waabwe, sso ssi mabega). Mazima Katonda Ayagala abeenenya, era ayagala abeetkuza}. **Surat Al-Bakara 222.**

74. OKWEGATTA NEBISOLO MWAMI OBA MUKYAALA ZAMBI DDENE

فَإِتَيَانُ الْبَهَائِمِ فَعْلٌ مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِّلْفَطَرَةِ، وَمُعْصِيَةٌ مِنْ أَقْبَحِ الْمُعَاصِيِّ، فَعَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلُوْنٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى
 بَحِيمَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ

Okwegatta n'ebisolo (ente, embuzi, endiga, embwa, edogoyi nebirala) kikolobero ekibi era nga kitamwa kuba kyawukana nobubumbwa era kyonono ekitamanyi byonono, Ibn Abbas yagamba nti Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihhi Wasalamu yatugamba nti: yakolimirwa yenna eyegatta nekisolo.

75. OKULYA EMMAALI Y'OBUSIKA OBA EYABASIKA

اعتبر العلماء أن أكل الميراث من كبار الذنوب كما جاء في قول الله تعالى:
(وَتَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا)

Abamanyi baffe beegatta nti mazima yenna alya emmaali y'obusika zambi mu mazambi amanene.

Qur'an: “Era mulya emmaali y'obusika olulya oluyitirivu; (balya emmaali y'abasika mu ngeri yonna gye babeera bafunye-ekkirizibwa mu mateeka. Oba etekkirizibwa)”.

76. OKULYA ENNYAMANFU N'OMUSAAYI

ذهب الفقهاء رحمة الله إلى حرمة أكل الميتة في حال الاختيار والاسعة،
حيث قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمْ...}.

Abamanyi baffe balaga nti kiri haraam okulya ebifudde byokka mumbeera ezimanyidwa.

Allah waffe atugamba mu **Qur'an:** “Mazima Katonda Yaziza ku mmwe (okulya) ennyamanfu n'omusaayi”.

عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أَحِلَّتْ لَنَا مِيتَانٌ وَدَمَانٌ؛ فَإِمَّا الْمِيتَانُ، فَالجَرَادُ وَالْحَوْتُ، وَإِنَّ الدَّمَانَ،
فَالْكَبِيدُ وَالطِّحَالُ))؛ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجِهِ

Hadith: “Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Twakirizibwa Okulya ebifu bibiri nemisaayi ebiri , wabula ebifudde ebibiri Enzige n'Ebyenyanja nemisaayi Ekibumba nakataago”.

77. OKULYA ENNYAMA Y'EMBIZZI

أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم أكل لحم الخنزير

فمن كتاب الله تعالى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)

Okwegatta kw'abamanyi baffe kubwa haraam bw'okulya ennyama y'mmbizzi.

Qur'an: "Mazima Katonda Yaziza ku mmwe (okulya) ennyamanfu n'omusaayi, n'ennyama y'ebizzi....".

78. ABAZADDE OKUTTA ABAANA BABWE KU LW'OKUTYA OBWAVU NENJALA.

ومن الآيات الدالة على التحريم قوله تعالى : "وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنَبْ نَرْقُشُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا" (الإسراء، الآية: 31)

Mu zimu Ku Ayati eziraga obwa Haraam bwakyo.

Allah atugamba mu Qur'an: {Era temuttanga abaana bammwe ku lw'okutya obwavu. Ffe tubagabira (bo) nammwe. Mazima okubatta (okuva ddi na ddi) kyali kisobyo kienene}.

79. OMWANA OKOLIMIRA BAZADDE BE

لعن الوالدين من كبائر الذنوب؛ وفي "صحيح مسلم" من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله من لعن والديه))

Hadith ya Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Allah yakolimira yenna okolimira bazadde be)

80. OKUVUMA ABAZADDE

سب الوالدين من الكبائر؛ فقد أخرج "البخاري ومسلم" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من الكبائر شتم الرجل والديه))، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ((نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباها، ويسب أمه فيسب أمها))

Okuvuma abazadde zambi ddene mu mazambi amanene

Hadith ya Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihis Salatu wa Salamu yatugamba nti: Mumazambi amanene Omuntu okuvuma abakadde be, nebamubuuza: owange gwe Omubaka wa Allah Omuntu asobola atta okuvuma bakadde be? Nadamu nti: yee, oli avuma taata wagundi naye naavuma taata wo, novuma ma'ama we naye naavuma ma'am wo.

81. OKULAYIRA EBITALI ALLAH

فلا يجوز الحلف بغير الله؛ بل هو من الشرك الأصغر فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذى، وقال الترمذى: هذا حديث حسن، وصححه الألبانى

Tekikkirizibwa kulayila kitali Allah, era oyo **Shirik** omutono.

Ibn Umar swahaaba w'Omubaka agamba nti, temulayira nga ebitali Allah mazima nze nawulira Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihis Salatu wa Salamu nga agamba: "Yenna alayira ekitali Allah abeera akafuwadde oba aggase ku Allah".

82. OBWEYAMU ERI EBITALI ALLAH

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهذا شرك أكبر.

Yagamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah: Obweyamu eri ebitali Allah nga obweyamu eri amasanamu oba enjuba oba omwezi oba entaana nebiringa ebyo kubeera kugatta ku Allah.

قال تعال (يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ) الانسان 7

Qur'an: Be bantu abo ku nsi kuno) abatuukiriza obweyamu (bwabwe n'obuvunaanyizibwa.

83. OKULOOOWOOZA KU ALLAH OBUBI

أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ وَابْنُ مَاجْهٍ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ عَزَّ قَائِلًا: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56}

Al-Dailami ne Ibn Majah bakireeta mu Tafsir zaabwe, mazima ddala Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihis Salamu yatugamba nti: Mumazambi amanene kwe Kuloowooza ku Allah Obubi ‘gambanga omuntu ogamba nti Allah singa abadde amanyi, Allah naye talaba, Katonda mulyazaamanya nebirala.

Qur'an: “N'agamba nti: Ani akutuka n'okusuubira okusaasira kwa Mukama we, wabula (mpozzi abo) ababuze”?

وقال الله تعالى في ذلك: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءَهُ أُولَئِكَ يَئْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

“N'abo abawakanya obubonero bwa Katonda n'Okumusisinkana (ku Lunaku Lw'enkomerero), abo ba kukutuka n'okusuubira okusaasira Kwange. Nabo balina eibibonyobonyo ebiruma”.

84. OKULOOWOOZANGA KUBANTU BANNAMMWE EBIROWOOZO EBITEEBEREZE

الأصل أن المسلم يحسن الظن بإخوانه، والله - تبارك وتعالى - يقول: يا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]

Kimanyidwa eri buli musiraamu okuloowoozanga ku bagande bo ekirungi, Allah atugamba mu Qur'an:

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Mwewale nnyo (nga bwe musobola okuloowoozanga ku bantu bannammwe) ebirowoozo ebiteebereze obuteebereza; kubanga mazima ebirowoozo ebiteebereze ebimu mazambi meereere”.

وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: إِيَاكُمْ وَالظُّنُونُ، إِنَّ الظُّنُونَ أَكْذَبُ
الْحَدِيثِ [3] ، متفق عليه

Hadith: Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: “Mbewaza okuloowoozanga kubantu bannammwe ebirowoozo ebiteebereze ebimu zibeera mboozi za bulimba”.

85. ENSAALWA

الحسد كبيرة من كبائر الذنبوقال تعالى : { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا
. [النساء 54] }

Ensaalwa kinene mumazambi amanene Allah atugamba mu Qur'an:

Qur'an: "Nandiki, basaalirwa abantu ku lw'ebyo Katonda bye Yabawa mu birungi Bye? Mazima Twawa ab'oluganda lwa Ibrahiimu Ekitabo n'okumanya amateeka, era ne Tubawa Obufuzi obunene".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

Hadith Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yatugamba nti: "Mbewaza ensaalwa, kubanga ensaalwa erya buli kirungi nga omuliro bwe gulya enku" ..

86. OKUSALA ENVIIRI EZITENKANANKANA (EKIMEMEYA)

والقزع كله مكرود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قرعاً مشبهأً للكافر فإنه يكون محراً، لأن التشبيه بالكافر محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"

Ekimemeya kyonna kitamibwa, Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yalaba omwana nga asaze enviiri ezimu nazilekako,

Nabbi n'amulagira zonna azimaleko oba azirekeko, wabula singa kiba kwefananyiriza bakafiiri awono kibeera Haraam, Olwensonga Okwefananyiriza Abakaafu Kiri Haraam, Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatugamba nti: "Yenna eyfaananyiriza ekibiina kya bantu abeera wamukyo".

فالاصل في النهي التحرم، يعني إذا قيل لك: قال رسول الله: لا تفعل، فيجب عليك ألا تفعل، ويحرم عليك أن تفعل؛ لأن الأصل في النهي التحرم.

عن ابن عباس أنه قال: كل ما نهى الله عنه، فهو كبيرة

Ekikolo mukuziyiza ekintu kyonna kiba Haraam, singa bagamba nti Omubaka yakigaana kiba kyateeka okukireka era kiba Haraam okukikola.

Swahaaba ayitibwa Ibn Abbas RadhyahaAllahu Aanihu yagamba nti: Buli kyonna ekyaziyizibwa kibeera mumazambi amanene.

87. OKUSALAKO EBIREVU N'OKUZA AMASULUBU

الصحيح أن حلق اللحية حرام، وهو قول أكثر أهل العلم

Ekituufu omusajja okusalako ebirevu Kiri Haraam era kyekigambo Kya bamanyi baffe abasinga obungi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْقُّوا الشَّوَّارِبَ وَأَوْفُوا الْلِّحَىٰ". وَفِي رِوَايَةِ "وَأَعْفُوا الْلِّحَىٰ". وَفِي رِوَايَةِ الْبَخَارِيِّ.

Hadith Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatugamba nti: "Mwawukane kubagatta ku Allah (Abasamize) mukendeeze kumasulubu byo ebirevu mubirekeeko".

88. OMUKYALA OKUSALAKO ENVIIRI ZONNA KU MUTWE GWE

لا يجوز للمرأة أن تخلق شعر رأسها إلا من ضرورة لما روى الترمذى والنسائى عن علي رضي الله عنه أن النبي : (نهى أن تخلق المرأة رأسها).

Obusiraamu tebukkiriza mukazi yenna kusala nviiri ze ezokumutwe okujako olwanakolantya gamba nga okumulongoosa oba okubeera nensekere munviiri nebirala ebiringa ebyo.

Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yaziyyiza omukyaala okusalako Enviiri kumutwe gwe.

فالاصل في النهي التحرم، يعني إذا قيل لك: قال رسول الله: لا تفعل، فيجب عليك ألا تفعل، ويحرم عليك أن تفعل؛ لأن الأصل في النهي التحرم عن ابن عباس أنه قال: كل ما نهى الله عنه، فهو كبيرة

Ekikolo mu kuziyiza ekintu kyonna kiba haraam, singa bagamba nti Omubaka yakigaana kiba kya tteeka okukireka era kiba haraam okukikola.

Swahaaba ayitibwa Ibn Abbas Radhiya Llahu anihu yagamba nti: Buli kyonna ekyaziyizibwa kibeera mumazambi amanene.

89. ABASAJJA OBUTAWASA N'ABAKAZI OBUTAFUMBIRWA AWATALI NSONGA (CELIBACY)

فقال سبحانه وتعالى : وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِعَاءَ رَضْوَانِ
اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِّعَايَتِهَا [المحديد:27]

Wabula obusossodooti (bannaddiini abasajja obutawasa n'abakazi obutafumbirwa n'okwekomomma nga beeresa eby'ensi mbu beemalidde eri Katonda bo bennyini) be baabwegunjirawo-Tetububalaalikangako – (Bo ku bwabwe be baabwebinikako) nga banoonya okusiima kwa Katonda, ate ne batabukuma nga bwe buteekwa okukuumwa.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ سُمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَّاعِلِ .

Hadith ya Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yaziyyiza ekiyitibwa Attabattulu (obuwuulu oba obwanakyeyombekedde) nogaana okuwasa omukyaala oba omukazi ogaana okufumbirwa awatali nsongra.

90. OMUKYAALA OKUTAMBULA NAAVA MU MAK GABAWE NGA TAFUNYE LUKUSA.

خروج الزوجة من بيتها فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري

Omukyaala okufuluma mu nyumba ya bba nga tamuwadde lukusa tekikkiriziba, obujulizi bungi ku nsonga eyo abamanyi baffe bwebaaleta nga Hadith ya Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yatugamba nti: “Singa musabibwa bakyala bammwe obudde obw’ekkiro, mubakirizenga”.

وقوله تعالى: وَقَرْنَٰ فِي بُيُوتٍ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لِجَاهِلِيَّةِ الْأُولَٰئِكَ [سورة الأحزاب: 33]

Qur'an: Mukkalire mu mayumba gammwe. Temwejaajaamyanga nga okwejaajaamya kwa (abakazi) abaasooka abaali mu mirembe gy'obutamanya (mateeka ga Katonda).

91. OMUKYAALA OKWEKUBA AKAWOOWO (PERFUME) NGATALI WAKAAWE.

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أئمًا امرأة استعطرت فمررت على قوم ليجدوا ريحها فهمي زانية، وكل عين زانية" رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما

Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatugamba nti: "Omukyala singa atambula okuva mu bantu be nga yekubye akawoowo (perfume) abeera mu bwenzi".

92. OKWAMBALA ENGOYE EMYUUFU N'EKYENVU.

ثبت عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر و القسي". رواه البخاري وغيره. وفي الباب معناه عن علي عند النسائي وغيره وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 516

Nabbi Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yaziyyiza okwambala engoye emyuufu ne liiri.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمَا قال: رأى النبي ﷺ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: أَمْكَ أَمْرَتَنِي بِهَذَا؟ قَلَّتْ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَخْرُقُهُمَا". وفي روايةٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا مِنْ ثَيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَثْبِسْهَا رواه مسلم

Abdullah mutabani wa Amru mutabani wa Aswi (Allah yasiima kuye) yagamba nti: Nabbi ﷺ (okusaasira n'emirembe bibeere kuye) yalaba nga nnyambadde engoye bbiri eza kyenvu n'abuuza nti: ‘Abaffe maama wo ye yazikulagidde?’ Ne nziramu nti, ssebo nzoozeemu? Naddamu nti: ‘Wabula zookye bwokya’ (Muslim).

N’awalala kyagambibwa nti (yagamba nti): “Ddala ezo (eza langi eya kyenvu) ziri mu ngoye z’abakaafiiri kale temuzambalanga”.

فالاصل في النهي التحريم، يعني إذا قيل لك: قال رسول الله: لا تفعل، فيجب عليك ألا تفعل، ويحرم عليك أن تفعل؛ لأن الأصل في النهي التحريم عن ابن عباس أنه قال: كل ما نهى الله عنه، فهو كبيرة

Elikolo mukuziyiza ekintu kyonna kiba Haraam, singa bagamba nti Omubaka yakigaana kiba kyateeka okukireka era kiba Haraam okukikola.

Swahaaba ayitibwa Ibn Abbas RadhyahaAllahu Aanihu yagamba nti: “Buli kyonna ekyaziyizibwa kibeera mumazambi amanen”.

93.OKUNYWA SIGALA N'OKULYA AMAYIRUNGI

القات، والدخان كلاهما من الأشياء الباطلة، من أسباباً الضلال، كلاهما شر، كلها تضر بال المسلمين في صحتهم، وأبدانهم، تسبب غضب الله عليهم، فهي منكرة يحرم بيعها، وشراؤها، وأنماها، والتجارة فيها

Amayirungi ne sigala byombi ssi birungi era biviirako obubuze, n'obuzibu era bikosa Abasiraamu mu bulamu n'emibiri gyabwe, era nsonga eziviirako obusungu bwa Allah, bintu ebitamwa era nga biri haraam okubitunda, okubikozesa, n'okulya sente ezivaamu n'okusububula mubyo.

فإن شرب الدخان حرم بالكتاب والسنة

قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ فَنَأْخِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ .. {المائدة:4}.

Qur'an:“Bakubuuza (Ggwe Muhammadi) nti: Biriwa ebibakkirizibwa (okulya). Gamba nti: Mukkirizibwa mmwe byonna ebirungi”.

"...وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ....". {الأعراف:157}.

Nga abakkiriza okulya ebirungi (Byonna) n'aziza ku bo okulya ebibi; الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وأبو داود في (سننه) بسنده صحيح، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكن و麝ـ قال العلماء: (المفتر) كل ما يدرك الفتور في البدن،

Hadith ya maama waffe ummu salmah Allah yasiima kuye, agamba nti Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yaziyyiza buli kuntu kyonna ekitamiiza nabuli kyonna ekinaakisa obulamu bo oba omubiri go.

94. OKULWANAGANYA WAKATI W'EBISOLO OBA EBINYONYI

الإمام النووي رحمه الله: يحرم التحريش بين البهائم ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح

Al-imam Nawawwi atugamba nti Kiri Haraam okulwanaganya wakati w'ebisolo olwa Hadith ya Ibn Abbas RadhyahaAllahu Aanihu yagamba nti Nabbi Swalallahu Aleihi Wasalamu yaziyyiza okulwanaganya wakati w'ebisolo oba ebinyonyi.

95. OKWANUKULA KUKYOTAYINA AKO KUMAMYA

ما يدل على عظم ذنب من قال على الله ما لا يعلم .
قال ابن القيم رحمه الله :

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِبِّ الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَإِلَّا شَمَّ وَالْبَعْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِإِلَهٍ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٣٣ الأعراف:

Obumu ku bujulizi obulaga nti zambi ddene, okwogera ku Allah ky'otayinaako kumamya.

Agamba Ibn Qayyimu nti Allah waffe omulungi yakifuula haraamu okwogera ebyo by'otalinaako kumanya mu kwanukula ebibuuozo n'okulamula wakati w'abantu era n'akifuula haraamu akyasinze.

Gamba nti: “Mazima Mukama wange yaziyyiza eby'obuwemu (obwenzi), obwo obweyoleka n'obwenkiso, n'ebibi n'okulumbagana (abantu) mu bitali bya mazima, era (Abagaana) n'okugatta Katonda n'ekyo ekitakkako bujulizi, era (Yagaana) n'okwogera ku Katonda ebyo bye mutamanyi”.

وَمَا يَدْلِي أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّنَّتُكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ ١١٦ - ١١٧ ﴿ النَّحْلُ : ١١٦ - ١١٧ ﴾

Nobujulizi obulala obulaga nti kyonono kinene. **Surat An-Nahl 116-117.**

Qur'an: “Era temugambanga, ebyo bye zoogera ennimi zammwe ennimba, nti: Kino kitukuvu ate kino kizira: mulyoke mugunjewo obulimba ku Katonda. Mazima abo abagunja ku Katonda obulimba ssi ba kulokoka”.

96. OKWAWUKANA KUNDAGAANO

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر: "باب ما جاء في إخلاف الوعد، قوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْفَوْنَهُو بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ التوبه : ٧٧ ﴾

Yagamba Sheikh Muhammad bun Abdulwahaab mukitabo kye ekyamazambi amanene, omulyango omuntu okwawukana kundagaano,

Qur'an **Surat Taubah Aya 77:** "N'olw'ekyo n'abagoberezaako obunnanfuusi mu mitima gyabwe okutuusa ku lunaku lwe balimusisinkana, ku lw'okwawukana ku Katonda mw'ekyo kye baamulagaanyisa, ne kulw'ebyo bye baali balimba".

والنبي صلى الله عليه وسلم عد إخلاف الوعد من فعل المنافقين وصفاتهم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَحَلَفَ ، وَإِذَا أَؤْتُمْنَ خَانَ". (رواه الإمام البخاري في صحيحه).

Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatulaga nti omuntu okwawukana kundagaano kikolwa Kya bunanfuusi era kabonero kabunaanfuusi

Hadith: "Obubonero bw'omunanfuusi buli busatu, bw'aba ayogera alimba, bwe mukola endagaano ajaawukanako, bw'omuteresa ekintu akumpanya".

97. OKWAGALA ENNYO ABAAWAKANYA ALLAH

الموالاة فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي معاشرة الكافر ومصادقتهم

Okwagala ennyo abakaafiiri oba Abasamize zambi mu mazambi amanene okubafuula eb'emikwaano nfanfe.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ}

Qur'an: “Abange mmwe abakkiriza! Temufuulanga Abayudaaya n'Abakristaayo ab'emikwano enfiirabulago, ba mikwano ku bokka na bokka. N'omuntu abakwana mu mmwe mazima ye abeera wa mu bo. Mazima Katonda talunngamya kibiina ky'abalyazamanyi”.

فَالْعَالَمُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ أُلُّكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَا يَسِّرْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً ﴿٢٩﴾
آل عمران: ۲۸

Qur'an: “Abakkiriza tebafuulanga abatakkiriza ab'emikwano okuggyako abakkiriza (bannaabwe). N'omuntu akola ekyo tali mu ddiini ya Katonda mu kintu kyonna wabula (bwe kiba) nga mubadde mutya mu bo akabi (olwo mukwanagane nabo olw'okwekuuma)”.

98. OKWELAGUZA N'EBINYONYI

التطيير كبيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالشرك:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطِّيرَةُ شِرْكٌ، الطِّيرَةُ شِرْكٌ، ولكن الله عز وجل يذهب به بالتوكل)).

Okweraguza n'ebinyonyi zambi mu mazambi amanene olwensonga Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yatugamba nti: “Okweraguza ebinyonyi kugatta ku Allah,...”.

وقد عدَّ الطِّيَرَةَ في الكبائر: الذهبيُّ، وابن القيم، وابن النحاس، والحجاوي، وابن حجر، والسفاريني رحمةُ الله [3]. إسناده صحيح: أخرجه أبو داود

Al-Tiyarah (Okwelaguza Nebinyonyi) zambi mumazambi amanene nga imam Al-Dahabi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Nahhas, Al-Hijawi, Ibn Hajar, and Al-Safarini Allah abasaasire.

99. OKUVA MUBUSIRAAMU

ومما قد استدل به المسلمون على أن المسلمين قد يقع في الردة آيات منها قول الله تعالى: ﴿يَحْكِلُونَ بِاللَّهِ مَا قَاتَلُوا وَلَقَدْ قَاتَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ (التوبه/74)

Obumu kubujulizi obulaga nti omusiraamu ayinza okukaafuwala.

“Balayira Katonda nga beegaana nti tebayogeranga (kibi kyonna), nga ate baayogera ekigambo ky'obukafiiri era ne bakaafuwala oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe”.

وذلك لحديث علي بن أبي طالب المشهور عن النبي: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ)

Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Alehi Wasalamu yagamba nti: “Yenna aba avudde mu busiraamu mumutte....”.

100. OKUZUULA MU DIINI (BIDIA)

البدعة أكبر من الكبائر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن : (كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ ، وَكُلَّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ) رواه مسلم (867) ، والنسائي (1578)

Bidia zambi mumazambi amanene, Nabbi waffe Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu yagamba nti: Buli kuzuula mu Ddeenii konna bubuze, nabuli bubuze butwaala nyinibo mu muliro.

وقد بينَ أهل العلم أن البدعة وإن كانت كلها ضلال فإنها معصية من المعاصي ، والمعاصي تختلف درجاتها بالنظر إلى مدى مخالفتها للشرع

Abamanyi baffe bakinnyyonnyola nti okuzuula mu ddiini bubuze, kale buli bubuze kyonoono mu byonoono, wabula ebyonoono bisingana mu madaala singa oba obitunuulidde obuzito mu nnamula z'Obusiraamu.

OKUFUNDIKIRA

Amatendo amajuvu ga Allah Oyo ow'olubereberye ataliiko nkomerero, atusobozesezza okukungaanya ebikwata ku mazambi amanene mu bufunze, era tumusaba atugase nabyo fenna. Okusaasira n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammad Swalallahu Aleihi Wasalamu n'abantu b'enjuye, ne Baswahaaba be, n'abo abagoberera obulungamu bwe yaleeta, okutuusa ku lunaku Iwe'nkomerero.

25/3/2023